

29 جنوری 2019

## برامپٹن میں سردی کے طوفان کی اپ ڈیٹ: آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

برامپٹن کو سردی کے ایک بڑے طوفان کا شدت سے سامنا ہے، جو ریکارڈ توڑ برفباری لایا ہے۔ ذیل میں وہ چیزیں ہیں، جو آپ کو آج، 29 جنوری، کو جاننے کی ضرورت ہیں:

### سروس کے درجے

برفباری تقریباً صبح 4:30 بجے ختم ہوئی اور عملہ سڑکوں، سائیڈ واکس، ٹریلز، ٹرانزٹ سٹاپس، اسکول کراسنگز اور فائر ہال اور ریکرییشن سنٹر کے پارکنگ لائٹس کی بڑی صفائی میں مصروف ہے۔

عملہ شہر کے ہر حصے میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے، شدید موسمی کیفیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ برف ہٹانے کا پورا کام برفباری کے ختم ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر مکمل کر لیے جانے کی توقع ہے (بروز جمعرات، 31 جنوری صبح 4:30 بجے تک)۔

کچھ سڑکوں اور سائیڈ واکس پر صفائی ہونے تک سفر کرنا مشکل ہو گا۔ برائے مہربانی رفتار کم رکھیں اور اپنے آپ کو زیادہ وقت دیں۔

ہم اس صفائی کے دوران اپنے رہائشیوں کے تعاون اور صبر کو سراہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب صفائی مکمل ہو جائے، تو رہائشی 311 پر کال کر سکتے ہیں یا [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) پر ای میل کر سکتے ہیں، اگر انہیں لگے کہ ان کی سڑک چھوٹ گئی ہے۔

یاد دہانیاں:

- رہائشی علاقوں کی سڑکوں کو بڑی سڑکوں کی طرح پکٹنڈیوں تک صاف نہیں کیا جاتا۔ برف ہٹانے والی مشین کے گزرنے کے بعد آپ کی سڑک پر کچھ برف کا رہ جانا عمومی بات ہے۔
- جب عملہ سڑکوں کی صفائی کر رہا ہوتا ہے، تو رہائشیوں کے ڈرائیو ویز کے سروں پر برف رہ جاتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رہائشیوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے مگر بدقسمتی سے برف کے یہ ڈھیر (ونڈروز) ناگزیر ہیں۔
- برائے مہربانی تمام کھڑی گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا لیں، تاکہ عملہ حفاظت سے سڑک کو صاف کر سکے۔
- برائے مہربانی سائیڈ واکس سے برف اور گھر ہٹا کر انہیں محفوظ رکھنے میں مدد دیں۔ بزرگ شہریوں اور مستقل معذوریوں کے حامل رہائشیوں کے لیے، سٹی برف ہٹانے کے لیے معاشی معاونت کی پیشکش کرتا ہے۔ [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) پر مزید جانیں۔

### ٹرانزٹ

برامپٹن ٹرانزٹ کو کچھ راستوں پر تاخیروں کا سامنا ہے۔ برائے مہربانی اپنے لیے سفر کا کافی اضافی وقت رکھ کر آئیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے [@BramptonTransit](https://twitter.com/BramptonTransit) کو ٹوئٹر پر فالو کریں یا 905.874.2999 پر کال کریں۔ برائے مہربانی محتاط رہیں اور بس اسٹاپس اور ٹرمینلز پر اپنے پاؤں دیکھ کر قدم رکھیں۔

### تفریحی سنٹرز

تفریحی سنٹرز کھلے ہیں مگر زیادہ تر رجسٹریشن والے اور فوراً آ کر استعمال والے پروگرامز آج کی صبح منسوخ ہو چکے ہیں۔ باقاعدہ پروگرام آج دوپہر سے دوبارہ شروع ہونے کے لیے متوقع ہیں۔ رہائشیوں سے پیشگی طور پر اپنے تفریحی سنٹر کو کال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

### برامپٹن لائبریری

برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں آج کی صبح بند ہیں اور دن 1 بجے دوبارہ کھلیں گی۔

### مربوط رہیں:

- برف کی صفائی کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کے لیے [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) ملاحظہ کریں
- سٹی آف برامپٹن کو ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں
- سردیوں میں حفاظت کے حوالے سے مشوروں کے لیے [www.brampton.ca/prepared](http://www.brampton.ca/prepared) ملاحظہ کریں
- درخواستیں [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) پر ای میل کریں یا سردیوں میں عمل درآمد کے حوالے سے فوری صورتحالوں کے لیے 311 پر کال کریں

-30-

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)